



ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے شیڈول میں تبدیلی

کراچی، 13 مارچ 2020ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے شیڈول میں تبدیلی کر دی ہے۔ پی سی بی نے ایونٹ کے پلے آف میچز کو سیمی فائنل اور فائنل میں تبدیل کر دیا ہے۔

فیصلے کے مطابق ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کو چار روز تک محدود کر دیا گیا ہے۔ نئے شیڈول کے مطابق ایچ بی ایل پی ایس ایل میں اب 34 کی بجائے 33 میچز کھیلے جائیں گے۔

نئے شیڈول کے مطابق دونوں سیمی فائنلز 17 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر موجود ٹیم اب ایونٹ کی چوتھی بہترین ٹیم سے دوپہر 2 بجے پہلے سیمی فائنل میں مدمقابل آئے گی۔ پوائنٹس ٹیبل پر دوسری اور تیسری پوزیشنز پر موجود ٹیموں کے درمیان مقابلہ شام 7 بجے شروع ہوگا۔

ایونٹ کا فائنل 18 مارچ بروز بدھ کو شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا۔ شیڈول میں تبدیلی تمام ٹیموں کے مالکان کی رضامندی سے کی گئی ہے۔

پی سی بی اس حوالے سے حکومت پنجاب سے مسلسل رابطے میں ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں شیڈول آئندہ چاروں میچوں میں تماشائیوں کی شرکت کے بارے میں بھی مقامی حکومت کی سفارش پر عمل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے حتمی اعلان جلد کر دیا جائے گا۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 سے متعلق گذشتہ اپ ڈیٹس [یہاں](#) موجود ہیں۔

نیا شیڈول:

13 مارچ: پشاور زلمی بمقابلہ ملتان سلطانز بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچی بوقت رات 8 بجے۔ راشد ریاض اور مائیکل گف (آن فیلڈ امپائرز)، احسن رضا (تھرڈ امپائر)، فیصل خان آفریدی (فورٹھ امپائر) اور روشن ماہنامہ (میچ ریفری)۔

14 مارچ: کراچی کنگز بمقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچی بوقت شام 7 بجے۔ احسن رضا اور مائیکل گف (آن فیلڈ امپائرز)، راشد ریاض (تھرڈ امپائر)، فیصل خان آفریدی (فورٹھ امپائر) اور روشن ماہنامہ (میچ ریفری)۔

15 مارچ:

ملتان سلطانز بمقابلہ لاہور قلندرز بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور بوقت دوپہر 2 بجے۔ شوزب رضا اور علیم ڈار (آن فیلڈ امپائرز)، آصف یعقوب (تھرڈ امپائر)، ناصر حسین (فورٹھ امپائر) اور محمد انیس (میچ ریفری)۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز بمقابلہ کراچی کنگز بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچی بوقت شام 7 بجے۔ راشد ریاض اور مائیکل گف (آن فیلڈ امپائرز)، احسن رضا (تھرڈ امپائر)، فیصل خان آفریدی (فورٹھ امپائر) اور روشن ماہنامہ (میچ ریفری)۔

17 مارچ:

پہلا سیمی فائنل (1 بمقابلہ 4) بوقت دوپہر 2 بجے بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور
دوسرا سیمی فائنل (2 بمقابلہ 3) بوقت شام 7 بجے بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور

18 مارچ:

آئی سی سی کی میڈیکل ایڈوائزی مندرجہ ذیل ہے:

- صابن یا پانی سے 20 سیکنڈز تک ہاتھ دھوئیں
- اگر صابن یا پانی دستیاب نہیں تو سینیٹائزر کا استعمال کریں جس میں کم از کم 60 فیصد الکوحل ہو
- دھوئے بغیر اپنی آنکھوں، ناک اور منہ پر ہاتھ مت لگائیں
- بیمار لوگوں سے دور رہیں
- اگر آپ بیمار ہیں تو سفر سے اجتناب کریں
- کھانسی اور بخار کی صورت میں طبی امداد حاصل کریں
- اگر آپ بیمار ہیں تو گھر میں رہیں
- چھینکتے وقت ٹشو پیپر یا رومال کا استعمال کریں
- استعمال کے بعد ٹشو پیپر یا رومال کو کوڑا دان میں ضرور ڈالیں
- متواتر استعمال والی اشیاء کی صفائی کا خاص خیال رکھیں

- ENDS -

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications






E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

Partners



www.psl-t20.com 
[@thePSLT20](https://twitter.com/thePSLT20) 
[@thePSL](https://twitter.com/thePSL) 
[PakistanSuperLeague](https://twitter.com/PakistanSuperLeague) 
[@thePSL](https://twitter.com/thePSL) 

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4